

مکرمی طلبا اور اہل خانہ،

میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ نیویارک شہر محکمہ تعلیم (NYCDOE) اور مئیر کا دفتر طلبا اور خاندانوں کے پبلک اسکول جانے کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے، نقل وطنی کی حیثیت سے قطعہ نظر۔ وفاقی سطح پر چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو ہم بطور ایک شہر کے اپنے تمام طلبا، بشمول غیر دستاویز والے طلبا کو، ہمارے اسکولوں میں محفوظ رکھنے کے لیے عہد بستہ ہیں۔

ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ نیویارک شہر ایک نقل وطنوں کا شہر ہے۔ ہمارے نقل وطن والدین، طلبا، پرنسپل، اساتذہ، اور عملہ ہمارے نظام کا ایک پُرجوش اور اہم جز ہیں، اور ہم آپ میں سے ہر ایک کی قدر کرتے ہیں۔

منسلکہ دستاویز، بعنوان "نقل وطنی خاندانوں کے لیے تحفظ" [schools.nyc.gov/protectingimmigrantfamilies]، ان متعدد طریقوں کی تفصیل بیان کرتا ہے جن سے NYCDOE اور نیویارک شہر اپنے نقل وطن خاندانوں کا خیرمقدم اور تحفظ کرتے ہیں۔

اس رہنمائی کا ایک اہم جز ہے جس پر میں روشنی ڈالنا پسند کرونگا۔ NYCDOE غیرمقامی قانونی نفاذ، بشمول نقل وطنی اور کسٹم نفاذ، کو ہمارے اسکول کی عمارتوں تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اسکول کے احاطے میں اپنے نقل وطن خاندانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ثابت قدم ہیں، بشمول گرمیوں کے دوران جب ہمارے طلبا ہمارے اسکولوں میں گرمیوں کے اسکول اور گرمیوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، گرمیوں کے کھانوں سے مستفید ہوتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ جب ہمارے طلبا خزاں میں ہمارے پاس واپس آئیں گے، ہم ان کی نقل وطنی حیثیت سے قطع نظر، ہمارے اسکول میں شرکت کرنے کے حقوق کا دفاع کرنا جاری رکھیں گے۔

NYCDOE نقل وطن خاندانوں کو جو معاونتیں فراہم کرتا ہے ان پر مزید معلومات کے لیے، اور ساتھ ہی غیرمقامی قانونی نفاذ کے بارے میں رہنمائی کے لیے www.schools.nyc.gov/supportingimmigrantfamilies پر جائیں۔ اگر آپ اس بارے میں فکرمند ہیں کہ وقافی پالیسی کا آپ اور آپ کے خاندان کے لیے کیا مطلب ہوسکتا ہے، ActionNYC کی ہاٹ لائن سے 1-800-354-0365 پر مفت اور محفوظ نقل وطنی قانونی مدد کے لیے رابطہ کریں۔

چاہے آپ یا آپکا خاندان 100 برس پہلے آئے ہوں یا 100 دن پہلے — آپ نیویارکر ہیں — اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔

آپ کے ساتھ متحد،

Richard A. Carranza, Chancellor